

کیا میں اہل ہوں؟

آپ 26 ہفتوں تک کے بے روزگاری بہتے پانے کے حقدار ہو سکتے ہیں اگر آپ کی ملازمت چھوٹ گئی ہے یا اگر آپ کی ملازمت ناکافی ہے۔ لیکن، ضروری ہے کہ آپ درج ذیل اہلیتی شرائط پر پورے اترتے ہوں:

1- ضروری ہے کہ آپ بے روزگار ہوں یا آپ کی ملازمت نا کافی ہو۔

بہتے حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ پورے طور پر بے روزگار ہوں یا آپ کی ملازمت نا کافی ہو (یعنی آپ کی ملازمت ہفتے میں 40 گھنٹوں سے کم کی ہو اور آپ کو کام کے اضافی گھنٹے درکار ہوں)۔ اگر آپ جزوی طور پر ملازم ہیں، تو محکمہ برائے روزگار ترقی (Employment Development Department (EDD)) دفتر کو تمام آمدنی کی اطلاع دینے کو یقینی بنائیں۔

2- ضروری ہے کہ آپ ملازمت کے لئے اہل، دستیاب اور سرگرم متلاشی ہوں۔

آپ کو لازماً جسمانی اور دماغی طور پر کام کے لائق ہونا چاہئے۔ ضروری ہے کہ آپ کام کے لئے دستیاب ہوں، جس کے معنی ہیں کہ آپ فوراً اپنے معمول کے پیشہ یا اپنی مہارتوں اور تجربات کے لحاظ سے مناسب کام کو قبول کرنے کے لئے تیار اور خواہش مند ہوں۔

3. ضروری ہے کہ آپ کی نوکری اپنی خود کی غلطی کی وجہ سے نہ چھوٹی ہو۔

ضروری ہے کہ آپ کی حالیہ ترین ملازمت آپ کی خود کی غلطی کی وجہ سے نہ چھوٹی ہو۔
a. اگر کام نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو عارضی یا دائمی طور پر فارغ کر دیا گیا ہے تو آپ بہتوں کے لئے اہل ہیں۔

b. اگر آپ نے اپنی ملازمت اپنی مرضی سے چھوڑی ہے تو آپ بہتوں کے اہل ہو سکتے ہیں بشرطیکہ آپ کے پاس معقول وجہ ہو۔ مثال کے طور پر، آپ کی وجہ معقول ہو سکتی ہے اگر:

- آپ کے پاس صحت اور سلامتی کو نقصان پہنچنے کا معقول اور یقینی خطرہ تھا
- وہاں قانون محنت کی کوئی خلاف ورزی ہو رہی تھی
- کتبہ سے متعلق کوئی ہنگامی حالت درپیش تھی
- آپ کے ساتھ نا جائز امتیاز برتا گیا تھا یا براساں کیا گیا تھا
- آپ کی اجرتوں میں بڑی حد تک کٹوتی کر دی گئی تھی

ملازمت سے نکال دینے جانے کے خوف سے چھوڑ دینا کوئی معقول وجہ نہیں ہے۔

c. اگر آپ کو فارغ کر دیا گیا تھا، تو آپ اس صورت میں بھی بہتوں کے اہل ہو سکتے ہیں بشرطیکہ آپ کو غلط کاری کی وجہ سے ملازمت سے نہ نکالا گیا ہو۔

اگر آپ کو غلط کاری کی وجہ سے ملازمت سے نکال دیا گیا تھا تو آپ بہتوں کے لئے نا اہل ہو سکتے ہیں اگر آپ نے جان بوجھ کر ارادتاً یا لا پروا ہو کر

- کسی ایسی ذمہ داری کی خلاف ورزی کی ہو جو آپ کو بطور ایک ملازم کے اپنے آجر کے لئے کرنا چاہئے تھا؛
- خلاف ورزی سنگین تھی؛ اور
- آپ کے عمل سے آجر کے کاروباری مفادات کو نقصان پہنچا ہو۔

ممکنہ طور پر نا اہل بنانے والی غلط کاریوں کی مثالیں حسب ذیل ہیں:

- عدم تعمیل
- متعدد انتباہات کے باوجود بار بار تاخیر کرنا یا غیر حاضر ہونا
- چوری کرنا
- کام پر سو جانا
- نشہ خوری

آپ بے روزگاری بہتے کے مستحق ہو سکتے ہیں اگر آپ کو درج ذیل کی وجہ سے ملازمت سے فارغ کیا گیا تھا:

- کام کی خراب کارکردگی
- معمولی لا پرواہی کے اکا دکا واقعات یا نیک نیتی سے کئے گئے فیصلہ میں غلطی
- آجر نے آپ کے ساتھ یا دیگر ملازمین کے ساتھ سلوک کو نظر انداز کیا
- اگر بر طرف کرنے کی بڑی وجہ غلط کاری کے علاوہ کچھ اور تھی تو آپ بہتوں کے اہل ہو سکتے ہیں

4. آپ کی سابقہ کمائیاں لازماً کافی ہونی چاہئیں۔

اہل ہونے کے لئے ضروری ہے کہ آپ نے گذشتہ 15 تا 17 ہفتوں کے اندر کافی اجرتیں کمائی ہوں۔ آپ کے ہفتہ واری بہتے کی رقم اس مدت کے دوران آپ کی

کمانی کی بنیاد پر طے کی جاتی ہے۔ مزید معلومات کے لئے EDD سے رابطہ کریں۔

5. آپ کو لازماً رپورٹ شدہ تمام شرائط کی تعمیل کرنی چاہئے۔

اگلا پینل، "بہتوں کے لئے درخواست دینا" دیکھیں۔

بہتوں کے لئے درخواست دینا

محکمہ برائے روزگار ترقی (EDD) عوام کے ساتھ تمام معاملات ٹیلیفون یا ای میل کے ذریعہ کرتا ہے۔

1. دعویٰ داخل کرنا: EDD کے درج ذیل نمبر پر کال کریں اور انہیں بنیادی معلومات فراہم کر دیں۔ EDD آپ کے لئے ٹیلیفون پر ایک انٹرویو کا بندوبست کرے گا۔

2. ٹیلیفون انٹرویوز: یہ انٹرویو ابتدائی استحقاق کو طے کرتا ہے۔ EDD کے ساتھ مکمل ایمانداری برتیں۔ غلط بیانیوں کی صورت میں بہتوں سے انکار کیا جا سکتا ہے یا مجرمانہ افعال کا مرتکب بھی قرار دیا جا سکتا ہے۔ اضافی انٹرویوز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔

3. دعوے کے فارم: بہتے حاصل کرتے رہنے کے لئے، ضروری ہے کہ آپ ہر دو بہتوں پر کوئی جاری دعوے کا فارم (Continued Claim Form) پُر کریں۔ آپ پہلے بہتہ میں بہتے حاصل نہیں کریں گے، لیکن آپ کو لازماً اس بہتے کے لئے دعوے کا فارم پُر کرنا چاہئے۔

4. کسی انکار کی صورت میں اپیل کرنا: اگر آپ کا دعویٰ مسترد ہو جاتا ہے تو کوئی اپیل فائل کرنے کے لئے آپ کے پاس 20 دنوں کا وقت رہتا ہے۔ آپ کو بس ایک خط لکھنا ہے جس میں یہ بیان ہو کہ

"میں فیصلہ سے متفق نہیں ہوں۔ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں۔"

5. سماعت: انتظامی قوانین سے متعلق کوئی جج اپیل کی سماعت کریں گے۔ سماعت سے قبل اپنی فائل پر نظر ثانی کر لیں۔ آپ اپنی نمائندگی کے لئے کوئی اٹارنی یا وکیل رکھ سکتے ہیں۔ آپ ایسے گواہ پیش کر سکتے ہیں جو آپ کے حق میں گواہی دے سکیں۔

UI بہتوں کی درخواست کے لئے، EDD سے 1-800-300-5616 پر رابطہ کریں۔



سال 1972 سے معاشرے کی خدمت میں مصروف

55 Columbus Ave.
San Francisco, CA 94111
ٹیلیفون (415) 896-1701
فیکس (415) 896-1702
www.asianlawcaucus.org

ایشین لا کاؤکس (Asian Law Caucus) کا مشن ایشیائی اور پیسفک آئی لینڈ کے باشندگان کے معاشروں کے قانونی اور شہری حقوق کو فروغ دینا، آگے بڑھانا اور نمائندگی کرنا ہے۔ یہ مانتے ہوئے کہ سماجی، اقتصادی، سیاسی اور نسلی عدم مساوات آج بھی ریاستہائے متحدہ میں موجود ہے، ایشین لا کاؤکس ہمارے سماج کے تمام سیکٹرز کو مساوات اور انصاف دلانے کے لئے پابند عہد ہے، جس میں خصوصی توجہ کم آمدنی والے ایشیائی اور پیسفک آئی لینڈ کے باشندگان پر دی جاتی ہے۔

© 2011 ایشین لا کاؤکس

ہم اس بروشر کی دوبارہ اشاعت کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور صرف اتنی درخواست کرتے ہیں کہ دوبارہ اشاعت کے وقت ایشین لا کاؤکس کو کریڈٹ دیں۔

اس پرچے کو قانون سے متعلق عوامی بیداری کو بڑھانے کے لئے تقسیم کیا جاتا ہے۔ ان معلومات کو قانونی مشورہ خیال نہیں کرنا چاہئے۔

ایڈاپٹ شدہ از: دی لیگل ایڈ سوسائٹی، امپلائمنٹ لا سنٹر، امپلائمنٹ لا مینویل۔

آخری تجدید اکتوبر 2011

اپنے حقوق کی معلومات حاصل کریں:

بے روزگاری بیمہ بہتے
کے لئے کس طرح
درخواست دیں



ASIAN
LAW CAUCUS

MEMBER OF
ASIAN AMERICAN CENTER
FOR ADVANCING JUSTICE

سال 1972 سے معاشرے کی خدمت میں مصروف